



English Translation Test-1

Time Allowed: 40Minutes

Note:

1. Assignment must be handwritten.
2. Upload it in "Quiz/Assignment" section, otherwise it will not be checked.

Name: _____	Batch: _____
Campus: _____	

Q. Translate the following into English, keeping in view the idiomatic/figurative expression.
(10)

اگر دنیا آپ کو اپنی طرف نہیں کھینچتی، اگر اللہ کے خوف سے آپکی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اگر دوزخ کا تصور آپ میں خوف خدا پیدا کرتا ہے، اگر آپ اللہ کی عبادت اسطرح کرتے ہیں جس طرح کرنی چاہیے، اگر نیکی آپ کو اپنی طرف راغب کرتی ہے اور آپ کے پاؤں برائی کے راستے پر جانے سے رک جاتے ہیں تو پھر آپ صالح ہیں۔ کچھ صالح ہوتے ہیں، کچھ صالح بنتے ہیں۔ صالح ہونا خوش قسمتی کی بات ہے۔ صالح بننا مسلسل تذکیہ اور مجاہدے کا عمل ہے۔ اس میں وقت لگتا ہے اور تکلیفیں بھی سہنا پڑتی ہیں۔

Masheed

TRANSLATION TEST 1

Also use idioms and phrasal verbs

Allure

If this world does not distract you, if the fear of ALLAH makes you teary, if the thought of hell makes you feel remorse, if you obey ALLAH the way you should, if righteous deeds attract you, and you step away from the path of wrongdoings, then you are pious. Some are born pious while others become pious. Being pious is a great blessing. Being pious requires consistent self-purification and a great effort. It takes time and one has to face a lot of hardships as well.

worship

afraid of God

Requires bearing